

ماڈیول ۴

فقہ کے ماخذ اور ان کی اہمیت

اس لیکچر میں فقہ کے مختلف ماخذ کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے، جن میں چاروں اسلامی مکاتب فکر (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) کے مراجع شامل ہیں۔ ہر مکتب فکر میں فقہ کی مخصوص کتب موجود ہیں جو ان مکاتب کے بڑے علماء اور مجتہدین نے لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں فقہ کے مسائل، احکام، اور ان کے دلائل نہایت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے حنفی مکتب میں امام سرخسی کی "المبسوط" اور مالکی مکتب میں "مدونہ" شامل ہیں۔ ان ماخذ کو جاننا اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ جب کسی مسئلے پر بحث یا تحقیق کی ضرورت ہو، تو صحیح دلائل کی بنیاد پر فیصلے کیے جاسکیں۔ فقہ کا اصل مقصد اللہ اور رسول ﷺ کی تعلیمات کو سمجھنا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔

طہارت کی تعریف

طہارت ایک اہم شرعی اصطلاح ہے، جس کا لغوی معنی صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اصطلاح میں طہارت کو دو بنیادی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: رفع الحدث اور زوال النجث۔ رفع الحدث سے مراد جسم کی وہ حالت ہے جس کی موجودگی میں انسان نماز اور دیگر عبادات ادا نہیں کر سکتا، جیسے وضو کا ٹوٹ جانا یا جنابت کی حالت۔ اس حالت میں وضو یا غسل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان عبادت کے قابل ہو سکے۔ زوال النجث کا مطلب جسم، کپڑوں یا جگہ سے گندگی اور نجاست کو دور کرنا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائیں۔ طہارت کے یہ دونوں پہلو عبادت کی قبولیت کے لیے انتہائی اہم ہیں۔

طہارت کی اقسام

طہارت کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: طہارت معنوی اور طہارت حسی۔ طہارت معنوی دل اور روح کی پاکیزگی سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب دل کو شرک، حسد، کینہ، اور نفرت جیسی روحانی بیماریوں سے پاک رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دل میں کسی اور کی محبت یا عبادت شامل نہ کی جائے، بلکہ صرف اللہ کی محبت اور عبادت دل میں ہو۔ طہارت حسی جسمانی طہارت سے متعلق ہے، جس میں جسم،



کیڑوں، اور رہنے کی جگہ کی صفائی شامل ہے۔ جسم کو وضو، غسل اور کیڑوں کو دھو کر پاک کرنا، نیز عبادت کے لیے پاک جگہ کا انتخاب کرنا طہارت حسی کا حصہ ہے۔ طہارت حسی میں اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کا حکم دیا گیا ہے، جو وضو اور غسل کا متبادل ہے۔

طہارت کی اہمیت

طہارت کی اہمیت کو شریعت میں بہت زیادہ فوقیت دی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں طہارت کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ " اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں " (التوبہ: 108)۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ " طہارت نصف ایمان ہے "، یعنی طہارت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ یہ ایمان کا ایک بڑا حصہ سمجھی جاتی ہے۔ طہارت کے بغیر نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ دیگر عبادت۔ لہذا طہارت نہ صرف روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے بلکہ عبادت کی قبولیت کے لیے ایک لازمی شرط ہے۔

طہارت کے عملی پہلو

طہارت کے عملی پہلو میں دو اہم اجزاء شامل ہیں: رفع الحدث اور زوال النجث۔ رفع الحدث سے مراد وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے عبادت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، جیسے ہوا کا خارج ہونا یا جنابت کی حالت میں ہونا۔ وضو اور غسل کے ذریعے اس حالت کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان عبادت کے قابل ہو سکے۔ زوال النجث کا مطلب جسم، کیڑوں، یا جگہ سے نجاست کو دور کرنا ہے تاکہ وہ عبادت کے لیے پاک ہوں۔ مثلاً اگر کیڑوں یا جسم پر پیشاب یا خون جیسی کوئی نجاست لگ جائے تو اسے دھونا واجب ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے لیے استعمال ہونے والی جگہ پر کوئی گندگی ہو، تو اسے صاف کیا جانا چاہیے۔

طہارت کے روحانی اور جسمانی فوائد

طہارت نہ صرف روحانی فوائد فراہم کرتی ہے بلکہ جسمانی صحت کے لیے بھی بے حد اہم ہے۔ وضو، غسل، اور کیڑوں کی صفائی سے جسم کی ظاہری صفائی ہوتی ہے اور انسان مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ " مسواک کرنا اللہ کی خوشنودی کا



سبب ہے"، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صفائی اللہ کو پسند ہے اور یہ روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ طہارت کے عملی فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ یہ انسان کو نماز، روزہ، اور دیگر عبادات کے لیے تیار کرتی ہے۔



Fiqh Ke Maakhiz Aur In Ki Ahmiyat

Is lecture mein fiqh ke mukhtalif maakhiz ka tafseeli zikar kiya gaya hai, jin mein charon Islami makaatib-e-fikr (Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali) ke maraji' shamil hain. Har maktab-e-fikr mein fiqh ki mukhtalif kutub mojud hain jo un makaatib ke barey ulama aur mujtahideen ne likhi hain. In kitaabon mein fiqh ke masail, ahkam, aur un ke dalail nihayat tafseel se bayan kiye gaye hain. Jaise Hanafi maktab mein Imam Sarkhasi ki "Al-Mabsut" aur Maliki maktab mein "Mudawwana" shamil hain. In maakhiz ko samajhna aur jaan'na is liye zaroori hai taake jab kisi mas'ale par bahas ya tehqiq ki zarurat ho, to sahih dalail ki buniyad par faislay kiye ja sakain. Fiqh ka asal maqsad Allah aur Rasool ﷺ ki taleemat ko samajhna aur un ke mutabiq zindagi guzarni hai.

Taharat Ki Tareef

Taharat ek ahem shar'i istilah hai, jiska laghwi ma'ni safai aur pakeezgi hai. Istilah mein taharat ko do buniyadi aqşam mein taqseem kiya gaya hai: **Rafa-ul-Hadath** aur **Zawal-ul-Khabas**. Rafa-ul-Hadath se murad jism ki wo halat hai jismein insaan namaz aur deegar ibaadat nahi kar sakta, jaise wuzu ka toot jana ya janabat ki halat. Is halat mein wuzu ya ghusl karna zaroori hota hai taake insaan ibaadat ke qaabil ho sake. Zawal-ul-Khabas ka matlab jism, kapdon ya jagah se gandaagi aur najaasat ko door karna hai taake wo paak ho jaayein. Taharat ke ye dono pehlu ibaadat ki qabooliyat ke liye nihayat ahem hain.

Taharat Ki Aqşam

Taharat ko do aqşam mein taqseem kiya gaya hai: **Taharat Ma'nawi** aur **Taharat Hissi**. Taharat Ma'nawi dil aur rooh ki pakeezgi se mutaliq hai. Iska matlab dil ko shirk, hasad, keena, aur nafrat jaisi roohani beemariyon se paak rakhna hai. Allah Ta'ala ka hukum hai ke dil mein kisi aur ki mohabbat ya ibaadat shaamil na ki jaye, balke sirf Allah ki mohabbat aur ibaadat dil mein ho. Taharat Hissi jismaani pakeezgi se mutaliq hai, jismein jism, kapdon, aur rehne ki jagah ki safai shaamil hai. Jism ko wuzu, ghusl aur kapdon ko dho kar paak karna, neez ibaadat ke liye paak jagah ka intikhab karna Taharat Hissi ka hissa hai. Taharat Hissi mein agar pani mayassar na ho to tayammum ka hukum diya gaya hai, jo wuzu aur ghusl ka badal hai.

Taharat Ki Ahmiyat

Taharat ki ahmiyat ko shariat mein bohot zyada ahmiyat di gayi hai. Quran o hadees mein taharat ko bohot buland maqam diya gaya hai. Allah Ta'ala ne Quran mein farmaya hai ke "Allah un logon ko pasand karta hai jo pakeezgi ko ikhtiyar karte hain" (Al-Tawbah: 108). Nabi Kareem ﷺ ne farmaya ke "Taharat nisf imaan hai", yani taharat ko itni ahmiyat di gayi hai ke yeh imaan ka aik bara hissa samjhi jaati hai. Taharat ke baghair na namaz qabool hoti hai aur na deegar ibaadat.



Lihaza taharat na sirf roohani pakeezgi ka zariya hai balki ibaadat ki qabooliyat ke liye aik laazmi shart hai.

Taharat Ke Amlī Pehlu

Taharat ke amlī pehlu mein do ahem ajzaa shamil hain: **Rafa-ul-Hadath** aur **Zawal-ul-Khabas**. Rafa-ul-Hadath se murad wo halaat hain jin ki wajah se ibaadat mein rukawat paida hoti hai, jaise hawa ka kharij hona ya janabat ki halat mein hona. Wuzu aur ghusl ke zariye is halat ko door karna zaroori hota hai taake insaan ibaadat ke qaabil ho sake. Zawal-ul-Khabas ka matlab jism, kapdon, ya jagah se najaasat ko door karna hai taake wo ibaadat ke liye paak hoon. Maslan agar kapdon ya jism par peshab ya khoon jaisi koi najaasat lag jaye to usay dhona wajib hai. Isi tarah agar namaz ke liye istemal hone wali jagah par koi gandaagi ho, to usay saaf kiya jana chahiye.

Taharat Ke Roohani Aur Jismaani Faide

Taharat na sirf roohani faide faraham karti hai balki jismaani sehat ke liye bhi be-had ahem hai. Wuzu, ghusl, aur kapdon ki safai se jism ki zaahiri safai hoti hai aur insaan mukhtalif beemariyon se mehfooz rehta hai. Nabi Kareem ﷺ ne farmaya ke "Miswak karna Allah ki khushi ka sabab hai", jis se yeh sabit hota hai ke safai Allah ko pasand hai aur yeh roohani taraqqi ka zariya banti hai. Taharat ke amlī faide mein se aik yeh hai ke yeh insaan ko namaz, roza, aur deegar ibaadat ke liye tayar karti hai.

